

JUZ VIII

111. Amen sekirone Keme temu-un malaikat ngen si dan tun-tun da bik matei miling ngen si dan Keme kemopoa (klulo) kute hal madep si paset si coa (kulo) lok beimen kecuali amen Allah kemlok, tapi dausi coa namen.
- ﴿ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكِيَّةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِن أَكْثَرَهُمْ تَجَاهِلُونَ ﴾ ١١١
112. Awe-o ba Keme menea tiep-tiep nebai-o musuak yoba syetan-syetan (kunei mecem) manusio ngen (kune mecem) jin pa-o si misik ngen pa-o daluyen miling da baik-baik utuk ngike (manusio) amen sekirone Tuhannu kemlok paset sicoa kemrejo, mako ting(g)ea ba si ngen jano da si madeak-madeak-o.
- ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۗ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۗ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ ١١٢
113. Dan (kulo) buliak atei titik tun-tun da coa beimen ngen kehidupan neak akhirat cenderung ngen danisik-o si asai senang ngen si supayo si kemrejo jano da si (syaitan) kemrejo.
- ﴿ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴾ ١١٣
114. Mako patutba ukummesoa hakim seluyen Allah, padahal Si-o ba da bik temu-un kteb (Quran) ngen udi secaro rinci, tun-tun da bik nelei kiteb ngen si, si namen sebab Quran-o tenu-un kenei Tuhan udi ngen sebeneane mako jibeakba udi agok debat termasuk tun da ragau-ragau.
- ﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۗ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ۗ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ ١١٤
115. Bik sempurno-ba klimat Tuhan-nu (Quran) utuk klimat da benea ngen adea coa ade da dapet mubeak klimat-klimat-Ne Si-oba da paling temiuk ngen paling namen.
- ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۗ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ ١١٥
116. Dan amen udi temotoa dau tun-tun da neak muko bumeiyo paset si lok semsat udi kunei dalen Allah, udi coa ade luyen temotoa sako bae si coa luyen kunei ngike (ngen Allah).
- ﴿ وَإِن تَطَّعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا ﴾

117. Sebeneane Tuhan-nu Si-oba da lebiak namen masalah tun-tun da dapet petunjuk.	<p style="text-align: right;">تَحْرُصُونَ ﴿١١٧﴾</p> <p>إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١٧﴾</p>
118. Mako kemukba benatang-benatang (da halal) da madeak gen Allah idong sembeliakne amen udi beimen negn ayat-ayat-Ne.	<p>فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِبَيِّنَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾</p>
119. Gentai udi coa lok muk (benatang-benatang da lebiak halal) da madeak gen Allah neak idong sembeliakne awok Allah bik tem-ang ngen udi jano da haram utuk te kecuali ite tepakso mukne, sebenea ne dadau (kunei manusio) benea-benea lok semsat (tun luyen) ngen hawo nafsunne tanpa ilmu, sebeneane Tuhnan-nu Si-o ba da lebiak namen tun-tun da melapau batas.	<p>وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ۗ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾</p>
120. Dan tinggeaba duso da keten ngen duso da coa keten, sebeneane tun-tun da menea duso, konyo paset nelel bales (idong bilai kiyamat) sebab da bik si kemrejo.	<p>وَذُرُوا ظَهَرَ الْأَيْمَنِ وَنَاطِنَهُ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَيْمَنَ سَيَجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢٠﴾</p>
121. Jibeak ba udi muk benatang-benatang da coa madeak gen Allah idong sembeliakne, sebeneane kerjo awei-o ba pasik, sebeneane syaitan-o misik ngen kuat-kuatne buliak si mlawen udi amen udi temoto-a si, sebeneane udi paset ba jijai tun-tun da musyrik.	<p>وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَدِّدْ لَكُمْ ۗ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾</p>
122. Janokah tun da bik matei sudo-o Keme midupne sudo-o Keme melei cahayo da te-ang ngen cahayo-o si dapet panu neak tengak-tengak masyarakat manusio serai ngen tun lem keadaan kelem da coa dapet kelua kune-o, awi-o ba Keme menea tun kapia-o kemliak dabaik jano da sudo si kemrejo.	<p>أَوْ مَنْ كَانَ مِيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۗ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾</p>

123. Aweiyo ba Keme made ngen tiep-tiep negrai panjahat-panjahat da lai buliak si menea ngike lem negrai-o, si coa ngike tun luyen seluyen awokne dewek, awok si coa sadar.
- وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ مُّجْرِمِيهَا لِيَمَّكُرُوا فِيهَا ۗ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾
124. Amen sapei suatu ayat ngen si si madeak keme coa beimen sapei nelel ngen keme da serai ngen jano da bik nelel ngen utusan-utusan Allah. Allah lebiak namen neak ipe pek tugas rasul (nebai-ne) tun-tun da menduso konyo paset keno hino neak sisi Allah, kulo sikso da paling gis sebab si terus galok ngike.
- وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾
125. Api di Allah kemlok melei ngen si petunjuk paset si mlapang dadone utuk (pecayo ngen agamo) Islam. Kulo ape da Allah kemlok kesaleakne paset Allah menea dadone sok ngen sempit awei si idong kenek moi lenget, awei-o ba Allah melei sikso ngen tun-tun da coa beimen.
- فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۗ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۗ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾
126. Dan dio-ba dalen Allah da lu-us sebeneane Keme bik jemlas tando-tando (keme) ngen tun-tun da emmok pelajaran.
- وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾
127. Utuk-ne (bik senyiap) Daru salam (sergo) neak adep Tuhan-ne, Si-o ba pelindung-ne kerno amea-amea baik (soleh) da terus si kemrejo.
- ﴿ هُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾
128. Dan inget ba bilai neak waktau Allah kemopoasi kutene Allah madeak hoi golongan jin (syetan) sebeneane udi bik dau (tesesat) manusio, lajau nadeak ba
- وَيَوْمَ تَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا بِمِعْشَرِ الْجِنَّ ۗ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ ۗ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا

kuat-kuatne kunei klopok manusio Ya tuhan keme sebenea-ne pa-o kunei keme bik dapet senang kune pa-o (da luyen) keme bik sapei moi waktau da Ko bik sudo tentep utuk keme, Allah madeak nrako-o ba plabai udi diyem sedangkan udi kekallenne kecuali Allah kemlok (da luyen) Sebeneane tuhan-nu paling bijaksana ngen paling lebiak namen.

أَسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَلِكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾

129. Dan aweo ba Keme menca pa-o tun-tun da zalaim-o jijai kuwat kune pa-o daluyen kerno jano da si usaho.

وَكَذَلِكَ نُؤَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٢٩﴾

130. Hoi golongan jin ngen manusio jano ate teko ngen udi rasul-rasul kune golongan udi dewek da semapei ngen udi ayat-ayat- Ku kulo melei peringatan utuk udi madep temau udi ngen bilai-yo, si madeak keme jijai saksai utuk awak keme dewek, kerno si-o ba tun-tun da kapea.

يَمْعَشِرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾

131. Da awei-o ba ade ba kerno tuhannu coa mbinaso kota-kota ca-o zalim idong pendudukne lem keada-an lengah (lalai).

ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْفُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفُلُونَ ﴿١٣١﴾

132. Dan dewek-dewek tun dapet derajat (seimbang) da si kemrejone, tuhannua coa lengah kunei jano da si kemrejo.

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾

133. Dan Tuhan-nu paling kayo kulo ade rahmat, amen Si kemlok paset Si mbunuak udi sudo-o gemitei-ko ngen api da Si kemlok sudo-o udi matei sudo-o Si mnea udi kunei keturunan tun-tun luyen.

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخِرِينَ ﴿١٣٣﴾

134. Sebenea-ne jano da Si jemanjai gen udi pasti sapei, udi coa sang(g)up temulokne.

إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَأْتِيَنَّكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣٤﴾

135. Kadeak-ba hoi kaumku beameaba sesang(g)up kemampuanmu sebeneane uku kulo beamea (kulo) konyo udi dapet namen ape si (neak antarote) da dapet uliak asea da baik kunei den-nyoyo, sebeneane tun-tun da zalaim cos dspet utung.

قُلْ يَنْقُومِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَقِيبَةُ الدَّارِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٥﴾

136. Dan si menea utuk Allah do bagian kunei da tenanem gen ternok do sudone bik cemipto Allah, lajau si madeak sesuai ngen sakone, dio utuk Allah dio kulo utuk patung-patung keme (berhala) mako sajian-sajian da utuk berhala-berhalane coa sapei ngen Allah, dan sajian-sajian da utuk Allah-o mako sajian-sajian-o sapei utuk berhalane, padeak kidek ba datentepne-o.

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا ۗ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ ۗ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٦﴾

137. Awei-o ba pemipin-pemipin-ne sudo menea dan kunei tun-tun da musyrik-o mandang baik anak-anok-ne utuk mbinaso-ne ngen tuk kemabur kunei-ne agamone. Amen Allah kemlok paset si coa kemrejo-ne mako ting(g)ea ba si ngen jano da si made-made-ne.

وَكَذَٰلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمُ شُرَكَائِهِمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾

138. Si madeak dio ba benatang ternok ngen tanem da tenegeak, coa buleak em(b)uk-ne seluyen tun da keme kemlok tenotoa ang(g)epne. Dan ade benatang ternok da haram kenek ngen binatang ternok da coa madeak ngen Allah neak waktau sembeliakne awei menea-menea ngike adep Allah, konyo Allah paset males si adep jano da terus si made-madene.

وَقَالُوا هَذِهِ أُنْعَمٌ وَّحَرَّتْ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَمٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَمٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾

139. Dan si madeak jano da lem tenei benatang ternokyo adeba husus utuk semane keme ngen utuk slawei ukumne haram, amen da lem tenei lahir matei malo semane ngen selawei boleak samo-samo mukne, knyo Allah nales si da jano gik tentepne, sebeneane Allah paling bijaksana ngen paling lebiak namen.

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ
لِدُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ۖ وَإِن يَكُن مَّيْتَةً
فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ۖ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُ
حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٩﴾

140. Sebeneane rugai ba tun-tun da munuak anokne kerno bodong ngen coa namen si meng haram jano da Allah bik melei rezkai ngen si semoto-mato menea-mena adep Allah, sebeneane si bik saleak coa ba si dapat petunjuk.

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَىٰ اللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾

141. Dan Si-o ba menea kebun-kebudan bejunjung ngen da coa bejunjung pun kermo tanem-tanem da mecem-mecem buakne zaitun ngen dlina da agok serai (ules ngen warnone) coa samo asaine, muk ba buakne (da mecem-mecem-o), amen si bik bebuak neleiba hokne neak bilai mok aseane (panenne) (ngen kemluar zakatne), jibeak bau di berlebiak ige, sebeneane Allah coa tujau ngen tutn-tun da kerjo belebiak-belebiak.

۞ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ
مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ ۖ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ ۖ وَءَاتُوا حَقَّهُ ۖ يَوْمَ
حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

142. Dan neak antaro benatang ternok-o ade da jijai utuk makut (kudo) ade kulo da utuk sembeliak (notong) kemukba kunei rezkai da bik nelebi Allah ngen udi.jibeakba temotoa lakeak-lakeak syaitan, sebeneane syaitan musuak utuknu da keten.

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاتٌ ۚ كُلُوا مِمَّا
رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾

143. (dioba) dlapen benatang da pasangan spasang kunei birai-birai ngen spasang kambing kadeakba janokah duwai da sebong-o diharamkan Allah, janokah

ثَمَنِيَّةٌ ۚ أَزْوَاجٌ ۖ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ
الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۚ قُلْ ۖ الذَّكْرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ

duwai da bei janokah da ade lem tenei da beine ? te-ang ba ngen uku ngen bedasar ilmau amen udi memang tun-tun da benea.

أَمَّا أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِيُّنِي بِعِلْمٍ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٢﴾

144. Dan sepasang kunei uto ngen sepasang sapai, janokah duwai da sebong haram janokah duwai da bei janokah da ade lem kandung bei-ne, janokah udi kemliak neak waktau Allah tentep dio utuknu ? mako api si da lebiak zalaim kunei tun-un da menea-menea ngike adep Allah utuk semsat manusio tanpa pengetahuan ? Sebeneane Allah coa melei petunjuk ngen tun-tun da zalim.

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ
الَّذَكَرْتُمْ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ
أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْتُمْ اللَّهَ
بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿٤٣﴾

145. Kadeakba coba uku dapet lem wahyu da bik newahyu ngen uku da bik haram utuk tun da lok mukne kecuali upan-o bukei atau daleak da ngalia atau daging jawauak kerno sebeneane kutene kotor atau benatang da sembeliak seluyen madeak gen Allah. Apei dalem keadaan tepakso idong si coa lok coa (kulo) mlapau batas, mako sebeneane tuhannu paling pengapun ngen paling sayang.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ
يَطْعُمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا
أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ
رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤٤﴾

146. Dan ngen tun-tun Yahudi keme haramkan kute benatang da beselon, dan kunei sapai gen birai-birai Keme mengharamkan utukne lemak kune keduwai benatang-o seluyen lemak da melket neak kedong keduwaine atau neak tenei lai ususne atau da becapua ngen telan, awei-o ba Keme mukum si kerno durhakone sebeneane Keme yoba paling benea.

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرِ
وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا
إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا
أَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا
لَصَادِقُونَ ﴿٤٥﴾

147. Mako amen si ngike udi kadeak ba: tuhan-nu dau rahmat da luas kulo sikso-Ne coa dapet tenulok kunei kaum da

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةِ وَلَا

mduso.

يُرَدُّ بِأَسْهُرٍ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٧﴾

148. Tun-tun da semrai tuhan ngen da luyen lok madeak amen Allah kemlok paset keme ngen bak-bak keme coa menduwai tuhan coa kulo keme coa meng haramkan barang janop bae, awei-o kulo tun-tun da ayokne bik ngike (para rasul) sapei si meding sikso Keme, kadeakba adekah udi ade ilmu sapei dapet udi kemten-ne ngen Keme ? udi coa temotoa kecuali sako bae dan udi coa luyen kune ngike.

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تُخْرُصُونَ ﴿٤٨﴾

149. Kadeakba Allah ade alasan (hujjah) da jelas undok kuwet mako amen si kemlok paset melei petunjuk ngen udi kutene.

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِيغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾

150. Kadeak kemin ba min(d)oi saksai-saksai udi da dapet melei saksai kerno Allah bik mengharamkan (upan da udi) coa meluak (haram-o), amen si kemliak ijai saksai mako jibeakba udi temotoa (kulo) ijai saksai serpoksi jbeak ba temotoa hawo nafsu tun-tun da ngike ayat-ayat Keme, Tuntun da coa beimen ngen adene kehidupan akhirat si kulo nduwai Tuhanne.

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿٥٠﴾

151. Kadeakba maroba uku mbaco jano da bik haran utuk udi ngen Tuhanne, di oba jibeak ba udi semrai Si ngen da luyen, baikba ngen duawai tun mak ngen bak, jibeakba munuak anak-anok udi kerno saben miskin, Keme melei rezkai ngen ko kulo si, jibeak ma-ok kerjo-kerjo da kidek baik da keten atau da coa keten, jibeakba mbunuak jiwo da bik Allah haramkan (mbunuakne) suleiyen ngen sebab da benea, awei-o da neluak Tuhannu ngen udi buliak udi paham.

﴿٥١﴾ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَنَّمُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٥٢﴾

152. Jibeakba udi ma-ok ngen hartu anak yatim kecuali ngen ca-o da beguno sapei

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ

si dewasa, cenukup ba takea ngen timbang da adea, Keme coa pek ban ngen do tun kecuali si sang(g)up ban-o, amen udi madeak mako kelokne udi menea adea sang(g)uak si-o pasuaknu, kulo kegongba janjai Allah da awei-o da meluak Allah ngen ko buleak udi tinget.

يَبْلُغُ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ
كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَيُعْهِدِ اللَّهُ أَوفِوًّا ذَلِكُمْ وَصَدِّكُمْ
بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

153. Dan bahwa (da Keme semayo) diyo adeba dalen-Ku da lu-us mako totoa ba si, jibeak udi temotoa dalen-dalen (da luyen) kerno dalen-dalen-o cem-ei-cem-ei udi kune dalen-ne, da wei-o neluak Allah ngen udi buliak udibertakwa.

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا
السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

154. Sudo-o Keme bik nelel kitep (Taurat) ngen Musa utuk menyempurno (ni'mat Keme) gen tun da menea da baik, utuk jemlas kutene utuk petunjuk ngen rahmat buliak si beimen gen temau tuhan udi.

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَىٰ الَّذِي أَحْسَنَ
وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ
رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٤﴾

155. Dan Quran-o ba kitep da Keme temu-un da berkah mako totoa si, bertakwa ba buliak udi nelel rahmat.

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾

156. (Keme temu-un Quran yo) buliak udi (coa) madeak sebab kiteb-o hanya utuk duwai golongan bae ayok Keme, sebeneane Keme coa dulai jano da udi mbaco.

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ
قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِيلِينَ ﴿١٥٦﴾

157. Atau buliak udi (coa) madeak sebeneane amen kiteb-o tenu-un gen keme pasetba keme lebiak dapet petunjuk kunei udi, sebeneane bik teko ngen udi keterangan da nyato kunei Tuhannu petunjuk ngen rahmat, mako apikah da lebiak zalim kunei da ngike ayat-ayat Allah ngen coa dulai gen Si? Konyo Keme lok melei bales ngen tun-tun da coa dulai ayat-ayat Keme ngen sikso da kidek kerno udi terus coa dulai Allah.

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ
مِنْهُمْ ۗ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ
آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾

158. Da si mot coa luyen ade ba tekone malaikat ngen si (utuk cemabut nyabaine) atau teko tuhan-nu, tekone pa-o tando-tando tuhan-nu pado bilai sapeine pa-o tando-tando tuhan-nu coa ba ade manfa'at igai imen utuk diraine dewek da atei beimen ayok-o, atau si (atei) usaho kebaikan lem maso imen-ne, kadeak ba kemotba gik udi sebeneane Keme kulo mot (kulo).

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ انْتَضِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٥٨﴾

159. Sebenene tun-tu da mecuak beleak agamone jijae kedau-kedau golongan coa ade agok didik tang(g)ung jawab-nu adep-ne, sebenea-ne urusan-ne hanyo tersereak ngen Allah, sudo-o Allah lok melei namen ngen udi jano da udi sudo kemrejo.

إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾

160. Apei da mbin amea da baik mako utuknu pahalo depuluak kilai lipet amea-ne, apei da mben kerjo da kidik mako Si coa nelel bales seluyen eimbang gen kidek-ne sedangkan si agok didik coa nerugai.

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ مِمثَلِهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا تُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

161. Kadeak ba sebeneane uku bik tenunjuk Tuhanku moi dalen da lu-us (dioba) agamo da benea, agamo Ibrahim da lu-us kulo Ibrahim coa termasuk tun-tun da musyrik.

قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِثْلَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾

162. Kadeak ba sebenea-ne semyangku ibadatku idupku ngen matei-ku hanyoba utuk Allah Tuhan semesta alam.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

163. Coa ade sekutu bagi-Ne gen awei-o ba da neluak ngen uku, uku iyoba tun da pertamo-tamo semreak dirai (ngen Allah).

لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

164. Kadeakba janokah uku mesoa tuhan seluyen Allah padahal Si-o ba Tuhan utuk kute-kute, coa ba agok do menea duso seluyen kdek-ne belek ngen diraine dewek, tiep tun nduso coa mbin duso da luyen sudo-o ngen Tuhan-nu bau di belek, lok nelei namen ngen udi janop da udi coa sepaham (semlisiak).

قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْنِي رَبَّنَا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ حَاتِلُونَ ﴿١٦٤﴾

165. Dan Si-o ba da meneau di penguaso-penguaso neak bumei Si kulo melkat pa-o udi kunei da luyen kedau-kedau drajat utuk mujaiko tentang jano da nelei-Ne ngen ko, sebeneane Tuhan-nu kemdiak gacang sikso-Ne gen sebeneane Si paling pengapun ngen paling penyayang.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾